

# **Maulana Azad National Urdu University**

# **MCA II Semester Examination - May - 2017**

## Paper - (MMCA250PET) Information Security & Cyber Laws

**Time : 3 hrs**

**Marks : 70**

ہدایات:

یہ پرچم والات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کم معروضی سوالات / خالی جگہ پُر کرنا / مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔  $(10 \times 1 = 10 \text{ Marks})$

2. حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں، اور اس میں طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دوسو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔  
 $(5 \times 6 = 30 \text{ Marks})$

3. حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔  $(3 \times 10 = 30 \text{ Marks})$

حصہ اول

## سوال نمبر : ۱

- |   |        |
|---|--------|
| Stream Cipher   | (i)    |
| Non - Repudiation                                       | (ii)   |
| Virus Threats کے تھق فرق واضح کیجئے۔                    | (iii)  |
| Crypt Analysis کی وضاحت کیجئے۔                          | (iv)   |
| Public Key اور Private Key کے تھق فرق واضح کیجئے۔       | (v)    |
| PGP کی وضاحت کیجئے۔                                     | (vi)   |
| Spoofing کسے کہتے ہیں۔                                  | (vii)  |
| Polyaphabetic Cipher کے کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیجئے۔ | (viii) |
| Transpositon Cipher کے کہتے ہیں وضاحت کیجئے۔            | (ix)   |
| Packet Replay کے کہتے ہیں۔                              | (x)    |

## حصہ دوم

- کو تفصیل سے مثال دے کر سمجھائیے۔ (2)
- کی وضاحت کیجئے، Active اور Passive Attacks کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیے۔ (3)
- کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیے۔ (4)
- مندرجہ ذیل پختہ رسانوٹ لکھیجئے۔ (5)
- Trojan Horse (a)
- Sniffing (b)
- Encryption کے ذریعہ Rail Fence Technique کے ذریعہ Come Home Tomorrow کیجئے۔ (6)
- کے بارے میں بحث کیجئے۔ (7)
- کو قائم کرنے کے لیے کیا Challenges کا سامنا کرنا پڑتا ہے سمجھائیے۔ (8)
- کی وضاحت کیجئے۔ Bio - Metric Systems کی مختلف فتمیں بیان کیجئے۔ (9)

## حصہ سوم

- IT Act 2000 کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، 2000 IT Act اور 2008 IT Act کے بین فرق واضح کیجئے۔ (10)
- IT Act 2000 میں کتنے Chapters ہیں اور وہ کون کونسے ہیں تفصیل سے بیان کیجئے۔ (11)
- مختلف قسم کے Cyber Crimes کے بارے میں تفصیل سے لکھیجئے۔ (12)
- کو تفصیل سے مثال کے ذریعہ سمجھائیے۔ RSA Algorithm (13)
- کیا ہے، مختلف قسم کے IDS's Intension Detection System (IDS) کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیے۔ (14)

☆☆☆